

ARABIC VERB CONJUGATOR

نَامٌ
يَنَامُ

Sleep

VERBAL NOUN (MASDAR)

نَوْمًا

سونا / نیند کرنا

Root: ن و م

PAST نَامٌ وہ سو گیا / اس نے نیند کی	PRESENT يَنَامُ وہ سوتا ہے / سو جائے گا	MASDAR نَوْمًا سونا / نیند کرنا	ISM FA'IL نَائِمٌ سونے والا / جو سو رہا ہو	ISM MAFOOL مَنَامٌ خواب / جگہ سونے کی
--	---	---------------------------------------	--	---

PAST TENSE

الماضي

الضمير	الفعل	ضمير	ترجمہ
هُوَ	نَامَ	وہ (ایک مرد)	اس ایک مرد نے نیند کی / سو گیا
هُمَا	نَامَا	وہ (دو مرد)	ان دو مردوں نے نیند کی / سو گئے
هُمْ	نَامُوا	وہ (سب مرد)	ان سب مردوں نے نیند کی / سو گئے
هِيَ	نَامَتْ	وہ (ایک عورت)	اس ایک عورت نے نیند کی / سو گئی
هُمَا	نَامَتَا	وہ (دو عورتیں)	ان دو عورتوں نے نیند کی / سو گئیں
هِنَّ	نِمْنَ	وہ (سب عورتیں)	ان سب عورتوں نے نیند کی / سو گئیں
أَنْتَ	نِمْتَ	تم (ایک مرد)	تم ایک مرد نے نیند کی / سو گئے
أَنْتُمَا	نِمْتُمَا	تم (دو مرد / عورتیں)	تم دونوں نے نیند کی / سو گئے
أَنْتُمْ	نِمْتُمْ	تم (سب مرد)	تم سب مردوں نے نیند کی / سو گئے
أَنْتِ	نِمْتِ	تم (ایک عورت)	تم ایک عورت نے نیند کی / سو گئی
أَنْتُمَا	نِمْتُمَا	تم (دو عورتیں)	تم دونوں عورتوں نے نیند کی / سو گئیں
أَنْتِمْ	نِمْتِمْ	تم (سب عورتیں)	تم سب عورتوں نے نیند کی / سو گئیں
أَنَا	نِمْتُ	میں	میں نے نیند کی / سو گیا / گئی
نَحْنُ	نِمْنَا	ہم	ہم نے نیند کی / سو گئے

PRESENT / FUTURE

المضارع

الضمير	الفعل	ضمير	ترجمہ
هُوَ	يَنَامُ	وہ (ایک مرد)	وہ ایک مرد سوتا ہے / سو جائے گا
هُمَا	يَنَامَانِ	وہ (دو مرد)	وہ دو مرد سوتے ہیں / سو جائیں گے
هُمْ	يَنَامُونَ	وہ (سب مرد)	وہ سب مرد سوتے ہیں / سو جائیں گے

ترجمہ	ضمیر	الفعل	الضمیر
وہ ایک عورت سوتی ہے / سو جائے گی	وہ (ایک عورت)	تَامُ	هِيَ
وہ دو عورتیں سوتی ہیں / سو جائیں گی	وہ (دو عورتیں)	تَامَانِ	هُمَا
وہ سب عورتیں سوتی ہیں / سو جائیں گی	وہ (سب عورتیں)	يَنِينَ	هُنَّ
تم ایک مرد سوتے ہو / سو جاؤ گے	تم (ایک مرد)	تَامُ	أَنْتَ
تم دونوں سوتے ہو / سو جاؤ گے	تم (دو مرد/عورتیں)	تَامَانِ	أَنْتُمَا
تم سب مرد سوتے ہو / سو جاؤ گے	تم (سب مرد)	تَامُونَ	أَنْتُمْ
تم ایک عورت سوتی ہو / سو جاؤ گی	تم (ایک عورت)	تَامِينَ	أَنْتِ
تم دونوں عورتیں سوتی ہو / سو جاؤ گی	تم (دو عورتیں)	تَامَانِ	أَنْتُمَا
تم سب عورتیں سوتی ہو / سو جاؤ گی	تم (سب عورتیں)	تَمِينَ	أَنْتُنَّ
میں سوتا/سوتی ہوں / سو جاؤں گا/گی	میں	أَنَا	أَنَا
ہم سوتے ہیں / سو جائیں گے	ہم	نَامُ	نَحْنُ

IMPERATIVE

الأمر والنهي

POSITIVE		الأمر	NEGATIVE		النهي
الضمير	الفعل	ترجمہ	الضمير	الفعل	ترجمہ
أَنْتَ	نَمْ	تم سو جاؤ (مذکر واحد)	أَنْتَ	لَا تَمْ	تم مت سو (مذکر واحد)
أَنْتُمَا	نَامَا	تم دونوں سو جاؤ	أَنْتُمَا	لَا تَامَا	تم دونوں مت سو
أَنْتُمْ	نَامُوا	تم سب سو جاؤ (مذکر جمع)	أَنْتُمْ	لَا تَامُوا	تم سب مت سو (مذکر جمع)
أَنْتِ	نَامِي	تم سو جاؤ (مؤنث واحد)	أَنْتِ	لَا تَامِي	تم مت سو (مؤنث واحد)
أَنْتُمَا	نَامَا	تم دونوں سو جاؤ (مؤنث)	أَنْتُمَا	لَا تَامَا	تم دونوں مت سو (مؤنث)
أَنْتُنَّ	نَمْنَ	تم سب سو جاؤ (مؤنث جمع)	أَنْتُنَّ	لَا تَمْنَ	تم سب مت سو (مؤنث جمع)

الجدول الإسنادي — الماضي

RELATIONAL MAPPING — PAST

هو	وہ (ایک مرد)
نِي	اس نے مجھے نیندی / سو گیا
نَا	اس نے ہمیں نیندی / سو گیا
كَ	اس نے تمہیں (ایک مرد) نیندی / سو گیا
كُمَا	اس نے تم دونوں کو نیندی / سو گیا
كُمُ	اس نے تم سب (مردوں) کو نیندی / سو گیا
كَ	اس نے تمہیں (ایک عورت) نیندی / سو گیا
كُنَّ	اس نے تم سب (عورتوں) کو نیندی / سو گیا
هُ	اس نے اسے (ایک مرد) نیندی / سو گیا
هُمَا	اس نے ان دونوں کو نیندی / سو گیا
هُم	اس نے ان سب (مردوں) کو نیندی / سو گیا
هَا	اس نے اسے (ایک عورت) نیندی / سو گیا
هُمَا	اس نے ان دونوں عورتوں کو نیندی / سو گیا
هِنَّ	اس نے ان سب (عورتوں) کو نیندی / سو گیا
ہیَا (مذکر)	وہ (دو مرد)
نِي	ان دو مردوں نے مجھے نیندی / سو گیا
نَا	ان دو مردوں نے ہمیں نیندی / سو گیا
كَ	ان دو مردوں نے تمہیں (ایک مرد) نیندی / سو گیا
كُمَا	ان دو مردوں نے تم دونوں کو نیندی / سو گیا
كُمُ	ان دو مردوں نے تم سب (مردوں) کو نیندی / سو گیا
كَ	ان دو مردوں نے تمہیں (ایک عورت) نیندی / سو گیا
كُنَّ	ان دو مردوں نے تم سب (عورتوں) کو نیندی / سو گیا
هُ	ان دو مردوں نے اسے (ایک مرد) نیندی / سو گیا
هُمَا	ان دو مردوں نے ان دونوں کو نیندی / سو گیا
هُم	ان دو مردوں نے ان سب (مردوں) کو نیندی / سو گیا
هَا	ان دو مردوں نے اسے (ایک عورت) نیندی / سو گیا
هِنَّ	ان دو مردوں نے ان سب (عورتوں) کو نیندی / سو گیا

ہم	وہ (سب مرد)
نِی	ان سب مردوں نے مجھے نیند کی / سو گیا
نَا	ان سب مردوں نے ہمیں نیند کی / سو گیا
نَاک	ان سب مردوں نے تمہیں (ایک مرد) نیند کی / سو گیا
نَاکَا	ان سب مردوں نے تم دونوں کو نیند کی / سو گیا
نَاکُم	ان سب مردوں نے تم سب (مردوں) کو نیند کی / سو گیا
نَاکِ	ان سب مردوں نے تمہیں (ایک عورت) نیند کی / سو گیا
نَاکُنَّ	ان سب مردوں نے تم سب (عورتوں) کو نیند کی / سو گیا
ہ	ان سب مردوں نے اسے (ایک مرد) نیند کی / سو گیا
ہَا	ان سب مردوں نے ان دونوں کو نیند کی / سو گیا
ہُم	ان سب مردوں نے ان سب (مردوں) کو نیند کی / سو گیا
ہَا	ان سب مردوں نے اسے (ایک عورت) نیند کی / سو گیا
ہُنَّ	ان سب مردوں نے ان سب (عورتوں) کو نیند کی / سو گیا

ہی	وہ (ایک عورت)
نِی	اس ایک عورت نے مجھے نیند کی / سو گیا
نَا	اس ایک عورت نے ہمیں نیند کی / سو گیا
نَاک	اس ایک عورت نے تمہیں (ایک مرد) نیند کی / سو گیا
نَاکَا	اس ایک عورت نے تم دونوں کو نیند کی / سو گیا
نَاکُم	اس ایک عورت نے تم سب (مردوں) کو نیند کی / سو گیا
نَاکِ	اس ایک عورت نے تمہیں (ایک عورت) نیند کی / سو گیا
نَاکُنَّ	اس ایک عورت نے تم سب (عورتوں) کو نیند کی / سو گیا
ہ	اس ایک عورت نے اسے (ایک مرد) نیند کی / سو گیا
ہَا	اس ایک عورت نے ان دونوں کو نیند کی / سو گیا
ہُم	اس ایک عورت نے ان سب (مردوں) کو نیند کی / سو گیا
ہَا	اس ایک عورت نے اسے (ایک عورت) نیند کی / سو گیا
ہُنَّ	اس ایک عورت نے ان سب (عورتوں) کو نیند کی / سو گیا

ہما (مؤنث)		وہ (دو عورتیں)
نِی	نَامَتَانِی	ان دو عورتوں نے مجھے نیند کی / سو گیا
نَا	نَامَتَانَا	ان دو عورتوں نے ہمیں نیند کی / سو گیا
ک	نَامَتَاكَ	ان دو عورتوں نے تمہیں (ایک مرد) نیند کی / سو گیا
کَا	نَامَتَاکَا	ان دو عورتوں نے تم دونوں کو نیند کی / سو گیا
کُر	نَامَتَاکُر	ان دو عورتوں نے تم سب (مردوں) کو نیند کی / سو گیا
کِ	نَامَتَاکِ	ان دو عورتوں نے تمہیں (ایک عورت) نیند کی / سو گیا
کُن	نَامَتَاکُن	ان دو عورتوں نے تم سب (عورتوں) کو نیند کی / سو گیا
ہ	نَامَتَاهُ	ان دو عورتوں نے اسے (ایک مرد) نیند کی / سو گیا
ہَا	نَامَتَاهَا	ان دو عورتوں نے ان دونوں کو نیند کی / سو گیا
ہَم	نَامَتَاهُمْ	ان دو عورتوں نے ان سب (مردوں) کو نیند کی / سو گیا
ہَا	نَامَتَاهَا	ان دو عورتوں نے اسے (ایک عورت) نیند کی / سو گیا
ہُن	نَامَتَاهُنَّ	ان دو عورتوں نے ان سب (عورتوں) کو نیند کی / سو گیا

ہن		وہ (سب عورتیں)
نِی	نَمْنِی	ان سب عورتوں نے مجھے نیند کی / سو گیا
نَا	نَمْنَنَا	ان سب عورتوں نے ہمیں نیند کی / سو گیا
ک	نَمْنَاکَ	ان سب عورتوں نے تمہیں (ایک مرد) نیند کی / سو گیا
کَا	نَمْنَاکَا	ان سب عورتوں نے تم دونوں کو نیند کی / سو گیا
کُر	نَمْنَاکُر	ان سب عورتوں نے تم سب (مردوں) کو نیند کی / سو گیا
کِ	نَمْنَاکِ	ان سب عورتوں نے تمہیں (ایک عورت) نیند کی / سو گیا
کُن	نَمْنَاکُن	ان سب عورتوں نے تم سب (عورتوں) کو نیند کی / سو گیا
ہ	نَمْنَاهُ	ان سب عورتوں نے اسے (ایک مرد) نیند کی / سو گیا
ہَا	نَمْنَاهَا	ان سب عورتوں نے ان دونوں کو نیند کی / سو گیا
ہَم	نَمْنَاهُمْ	ان سب عورتوں نے ان سب (مردوں) کو نیند کی / سو گیا
ہَا	نَمْنَاهَا	ان سب عورتوں نے اسے (ایک عورت) نیند کی / سو گیا
ہُن	نَمْنَاهُنَّ	ان سب عورتوں نے ان سب (عورتوں) کو نیند کی / سو گیا

تَمَّ (ایک مرد)	أَنْتَ
تَمَّ (ایک مرد) نے مجھے نیند کی / سو گیا	نِي
تَمَّ (ایک مرد) نے ہمیں نیند کی / سو گیا	نَا
تَمَّ (ایک مرد) نے اسے (ایک مرد) نیند کی / سو گیا	هُ
تَمَّ (ایک مرد) نے ان دونوں کو نیند کی / سو گیا	هُمَا
تَمَّ (ایک مرد) نے ان سب (مردوں) کو نیند کی / سو گیا	هُمْ
تَمَّ (ایک مرد) نے اسے (ایک عورت) نیند کی / سو گیا	هَا
تَمَّ (ایک مرد) نے ان سب (عورتوں) کو نیند کی / سو گیا	هِنَّ

تَمَّ (مرد/عورت)	أَنْتَ
تَمَّ دونوں نے مجھے نیند کی / سو گیا	نِي
تَمَّ دونوں نے ہمیں نیند کی / سو گیا	نَا
تَمَّ دونوں نے اسے (ایک مرد) نیند کی / سو گیا	هُ
تَمَّ دونوں نے ان دونوں کو نیند کی / سو گیا	هُمَا
تَمَّ دونوں نے ان سب (مردوں) کو نیند کی / سو گیا	هُمْ
تَمَّ دونوں نے اسے (ایک عورت) نیند کی / سو گیا	هَا
تَمَّ دونوں نے ان سب (عورتوں) کو نیند کی / سو گیا	هِنَّ

تَمَّ سب (مرد)	أَنْتُمْ
تَمَّ سب (مردوں) نے مجھے نیند کی / سو گیا	نِي
تَمَّ سب (مردوں) نے ہمیں نیند کی / سو گیا	نَا
تَمَّ سب (مردوں) نے اسے (ایک مرد) نیند کی / سو گیا	هُ
تَمَّ سب (مردوں) نے ان دونوں کو نیند کی / سو گیا	هُمَا
تَمَّ سب (مردوں) نے ان سب (مردوں) کو نیند کی / سو گیا	هُمْ
تَمَّ سب (مردوں) نے اسے (ایک عورت) نیند کی / سو گیا	هَا
تَمَّ سب (مردوں) نے ان سب (عورتوں) کو نیند کی / سو گیا	هِنَّ

تَمَّ (ایک عورت)	أَنْتِ
تَمَّ (ایک عورت) نے مجھے نیند کی / سو گیا	نِي
تَمَّ (ایک عورت) نے ہمیں نیند کی / سو گیا	نَا
تَمَّ (ایک عورت) نے اسے (ایک مرد) نیند کی / سو گیا	هُ
تَمَّ (ایک عورت) نے ان دونوں کو نیند کی / سو گیا	هُمَا
تَمَّ (ایک عورت) نے ان سب (مردوں) کو نیند کی / سو گیا	هُمْ
تَمَّ (ایک عورت) نے اسے (ایک عورت) نیند کی / سو گیا	هَا
تَمَّ (ایک عورت) نے ان سب (عورتوں) کو نیند کی / سو گیا	هِنَّ

انتن	تم سب (عورتیں)
نِی	تم سب (عورتوں) نے مجھے نیند کی / سو گیا
نَا	تم سب (عورتوں) نے ہمیں نیند کی / سو گیا
ہ	تم سب (عورتوں) نے اسے (ایک مرد) نیند کی / سو گیا
ہمَا	تم سب (عورتوں) نے ان دونوں کو نیند کی / سو گیا
ہم	تم سب (عورتوں) نے ان سب (مردوں) کو نیند کی / سو گیا
ہَا	تم سب (عورتوں) نے اسے (ایک عورت) نیند کی / سو گیا
ہن	تم سب (عورتوں) نے ان سب (عورتوں) کو نیند کی / سو گیا

اننا	میں
ک	میں نے تمہیں (ایک مرد) نیند کی / سو گیا
کَا	میں نے تم دونوں کو نیند کی / سو گیا
کُم	میں نے تم سب (مردوں) کو نیند کی / سو گیا
کِ	میں نے تمہیں (ایک عورت) نیند کی / سو گیا
کُنَّ	میں نے تم سب (عورتوں) کو نیند کی / سو گیا
ہ	میں نے اسے (ایک مرد) نیند کی / سو گیا
ہمَا	میں نے ان دونوں کو نیند کی / سو گیا
ہم	میں نے ان سب (مردوں) کو نیند کی / سو گیا
ہَا	میں نے اسے (ایک عورت) نیند کی / سو گیا
ہن	میں نے ان سب (عورتوں) کو نیند کی / سو گیا

نحن	ہم
ک	ہم نے تمہیں (ایک مرد) نیند کی / سو گیا
کَا	ہم نے تم دونوں کو نیند کی / سو گیا
کُم	ہم نے تم سب (مردوں) کو نیند کی / سو گیا
کِ	ہم نے تمہیں (ایک عورت) نیند کی / سو گیا
کُنَّ	ہم نے تم سب (عورتوں) کو نیند کی / سو گیا
ہ	ہم نے اسے (ایک مرد) نیند کی / سو گیا
ہمَا	ہم نے ان دونوں کو نیند کی / سو گیا
ہم	ہم نے ان سب (مردوں) کو نیند کی / سو گیا
ہَا	ہم نے اسے (ایک عورت) نیند کی / سو گیا
ہن	ہم نے ان سب (عورتوں) کو نیند کی / سو گیا

الجدول الإسنادي — المضارع

RELATIONAL MAPPING — PRESENT

هو		وه (ایک مرد)
نِي	يَنَامُنِي	وہ مجھے سوتا ہے / سو جائے گا
نَا	يَنَامُنَا	وہ ہمیں سوتا ہے / سو جائے گا
كَ	يَنَامُكَ	وہ تمہیں (ایک مرد) سوتا ہے / سو جائے گا
كُمَا	يَنَامُكُمَا	وہ تم دونوں کو سوتا ہے / سو جائے گا
كُم	يَنَامُكُمْ	وہ تم سب (مردوں) کو سوتا ہے / سو جائے گا
كَ	يَنَامُكَ	وہ تمہیں (ایک عورت) سوتا ہے / سو جائے گا
كُنَّ	يَنَامُنَّ	وہ تم سب (عورتوں) کو سوتا ہے / سو جائے گا
ه	يَنَامُهُ	وہ اسے (ایک مرد) سوتا ہے / سو جائے گا
هُمَا	يَنَامُهُمَا	وہ ان دونوں کو سوتا ہے / سو جائے گا
هُمْ	يَنَامُهُمْ	وہ ان سب (مردوں) کو سوتا ہے / سو جائے گا
هَا	يَنَامُهَا	وہ اسے (ایک عورت) سوتا ہے / سو جائے گا
هُمَا	يَنَامُهُمَا	وہ ان دونوں عورتوں کو سوتا ہے / سو جائے گا
هِنَّ	يَنَامُهُنَّ	وہ ان سب (عورتوں) کو سوتا ہے / سو جائے گا

هيَا (مذكر)		وه (دو مرد)
نِي	يَنَامَانِي	وہ دو مرد مجھے سوتے ہیں / سو جائیں گے
نَا	يَنَامَانَا	وہ دو مرد ہمیں سوتے ہیں / سو جائیں گے
كَ	يَنَامَاكَ	وہ دو مرد تمہیں (ایک مرد) سوتے ہیں / سو جائیں گے
كُمَا	يَنَامَاكُمَا	وہ دو مرد تم دونوں کو سوتے ہیں / سو جائیں گے
كُم	يَنَامَاكُمْ	وہ دو مرد تم سب (مردوں) کو سوتے ہیں / سو جائیں گے
كَ	يَنَامَاكَ	وہ دو مرد تمہیں (ایک عورت) سوتے ہیں / سو جائیں گے
كُنَّ	يَنَامَاكُنَّ	وہ دو مرد تم سب (عورتوں) کو سوتے ہیں / سو جائیں گے
ه	يَنَامَاهُ	وہ دو مرد اسے (ایک مرد) سوتے ہیں / سو جائیں گے
هُمَا	يَنَامَاهُمَا	وہ دو مرد ان دونوں کو سوتے ہیں / سو جائیں گے
هُمْ	يَنَامَاهُمْ	وہ دو مرد ان سب (مردوں) کو سوتے ہیں / سو جائیں گے
هَا	يَنَامَاهَا	وہ دو مرد اسے (ایک عورت) سوتے ہیں / سو جائیں گے
هِنَّ	يَنَامَاهُنَّ	وہ دو مرد ان سب (عورتوں) کو سوتے ہیں / سو جائیں گے

ہم	وہ (سب مرد)	
نِی	یَنَامُونِی	وہ سب مرد مجھے سوتے ہیں / سوجائیں گے
نَا	یَنَامُونَا	وہ سب مرد ہمیں سوتے ہیں / سوجائیں گے
ک	یَنَامُوكَ	وہ سب مرد تمہیں (ایک مرد) سوتے ہیں / سوجائیں گے
کَا	یَنَامُوكَا	وہ سب مرد تم دونوں کو سوتے ہیں / سوجائیں گے
کُم	یَنَامُوكُمْ	وہ سب مرد تم سب (مردوں) کو سوتے ہیں / سوجائیں گے
کِ	یَنَامُوكِ	وہ سب مرد تمہیں (ایک عورت) سوتے ہیں / سوجائیں گے
کِنَّ	یَنَامُوكِنَّ	وہ سب مرد تم سب (عورتوں) کو سوتے ہیں / سوجائیں گے
ہ	یَنَامُوهُ	وہ سب مرد اسے (ایک مرد) سوتے ہیں / سوجائیں گے
ہَا	یَنَامُوهُمَا	وہ سب مرد ان دونوں کو سوتے ہیں / سوجائیں گے
ہُمْ	یَنَامُوهُمْ	وہ سب مرد ان سب (مردوں) کو سوتے ہیں / سوجائیں گے
ہَا	یَنَامُوهَا	وہ سب مرد اسے (ایک عورت) سوتے ہیں / سوجائیں گے
ہِنَّ	یَنَامُوهُنَّ	وہ سب مرد ان سب (عورتوں) کو سوتے ہیں / سوجائیں گے

ہی	وہ (ایک عورت)	
نِی	تَنَامُونِی	وہ ایک عورت مجھے سوتی ہے / سوجائے گی
نَا	تَنَامُونَا	وہ ایک عورت ہمیں سوتی ہے / سوجائے گی
ک	تَنَامُوكَ	وہ ایک عورت تمہیں (ایک مرد) سوتی ہے / سوجائے گی
کَا	تَنَامُوكَا	وہ ایک عورت تم دونوں کو سوتی ہے / سوجائے گی
کُم	تَنَامُوكُمْ	وہ ایک عورت تم سب (مردوں) کو سوتی ہے / سوجائے گی
کِ	تَنَامُوكِ	وہ ایک عورت تمہیں (ایک عورت) سوتی ہے / سوجائے گی
کِنَّ	تَنَامُوكِنَّ	وہ ایک عورت تم سب (عورتوں) کو سوتی ہے / سوجائے گی
ہ	تَنَامُوهُ	وہ ایک عورت اسے (ایک مرد) سوتی ہے / سوجائے گی
ہَا	تَنَامُوهُمَا	وہ ایک عورت ان دونوں کو سوتی ہے / سوجائے گی
ہُمْ	تَنَامُوهُمْ	وہ ایک عورت ان سب (مردوں) کو سوتی ہے / سوجائے گی
ہَا	تَنَامُوهَا	وہ ایک عورت اسے (ایک عورت) سوتی ہے / سوجائے گی
ہِنَّ	تَنَامُوهُنَّ	وہ ایک عورت ان سب (عورتوں) کو سوتی ہے / سوجائے گی

ہما (مؤنث)		وہ (دو عورتیں)
نِی	تَنَامَانِی	وہ دو عورتیں مجھے سوتی ہیں / سو جائیں گی
نَا	تَنَامَانَا	وہ دو عورتیں ہمیں سوتی ہیں / سو جائیں گی
ک	تَنَامَاکَ	وہ دو عورتیں تمہیں (ایک مرد) سوتی ہیں / سو جائیں گی
کَا	تَنَامَاکَا	وہ دو عورتیں تم دونوں کو سوتی ہیں / سو جائیں گی
کُر	تَنَامَاکُر	وہ دو عورتیں تم سب (مردوں) کو سوتی ہیں / سو جائیں گی
کِ	تَنَامَاکِ	وہ دو عورتیں تمہیں (ایک عورت) سوتی ہیں / سو جائیں گی
کُن	تَنَامَاکُن	وہ دو عورتیں تم سب (عورتوں) کو سوتی ہیں / سو جائیں گی
ہ	تَنَامَاهُ	وہ دو عورتیں اسے (ایک مرد) سوتی ہیں / سو جائیں گی
ہَا	تَنَامَاهَا	وہ دو عورتیں ان دونوں کو سوتی ہیں / سو جائیں گی
ہُم	تَنَامَاهُم	وہ دو عورتیں ان سب (مردوں) کو سوتی ہیں / سو جائیں گی
ہَا	تَنَامَاهَا	وہ دو عورتیں اسے (ایک عورت) سوتی ہیں / سو جائیں گی
ہُن	تَنَامَاهُن	وہ دو عورتیں ان سب (عورتوں) کو سوتی ہیں / سو جائیں گی

ہن		وہ (سب عورتیں)
نِی	یَنَامِنِی	وہ سب عورتیں مجھے سوتی ہیں / سو جائیں گی
نَا	یَنَامِنَا	وہ سب عورتیں ہمیں سوتی ہیں / سو جائیں گی
ک	یَنَامِنَاکَ	وہ سب عورتیں تمہیں (ایک مرد) سوتی ہیں / سو جائیں گی
کَا	یَنَامِنَاکَا	وہ سب عورتیں تم دونوں کو سوتی ہیں / سو جائیں گی
کُر	یَنَامِنَاکُر	وہ سب عورتیں تم سب (مردوں) کو سوتی ہیں / سو جائیں گی
کِ	یَنَامِنَاکِ	وہ سب عورتیں تمہیں (ایک عورت) سوتی ہیں / سو جائیں گی
کُن	یَنَامِنَاکُن	وہ سب عورتیں تم سب (عورتوں) کو سوتی ہیں / سو جائیں گی
ہ	یَنَامِنَاهُ	وہ سب عورتیں اسے (ایک مرد) سوتی ہیں / سو جائیں گی
ہَا	یَنَامِنَاهَا	وہ سب عورتیں ان دونوں کو سوتی ہیں / سو جائیں گی
ہُم	یَنَامِنَاهُم	وہ سب عورتیں ان سب (مردوں) کو سوتی ہیں / سو جائیں گی
ہَا	یَنَامِنَاهَا	وہ سب عورتیں اسے (ایک عورت) سوتی ہیں / سو جائیں گی
ہُن	یَنَامِنَاهُن	وہ سب عورتیں ان سب (عورتوں) کو سوتی ہیں / سو جائیں گی

تَمَّ (ایک مرد)	أَنْتَ	تَمَّ (مرد/عورت)	أَنْتَا
تَمَّ (ایک مرد) مجھے سوتے ہو / سو جاؤ گے	نِي	تَمَّ (ایک مرد) مجھے سوتے ہو / سو جاؤ گے	نِي
تَمَّ (ایک مرد) ہمیں سوتے ہو / سو جاؤ گے	نَا	تَمَّ (ایک مرد) ہمیں سوتے ہو / سو جاؤ گے	نَا
تَمَّ (ایک مرد) اسے (ایک مرد) سوتے ہو / سو جاؤ گے	هُ	تَمَّ (ایک مرد) اسے (ایک مرد) سوتے ہو / سو جاؤ گے	هُ
تَمَّ (ایک مرد) ان دونوں کو سوتے ہو / سو جاؤ گے	هُمَا	تَمَّ (ایک مرد) ان دونوں کو سوتے ہو / سو جاؤ گے	هُمَا
تَمَّ (ایک مرد) ان سب (مردوں) کو سوتے ہو / سو جاؤ گے	هُمْ	تَمَّ (ایک مرد) ان سب (مردوں) کو سوتے ہو / سو جاؤ گے	هُمْ
تَمَّ (ایک مرد) اسے (ایک عورت) سوتے ہو / سو جاؤ گے	هَا	تَمَّ (ایک مرد) اسے (ایک عورت) سوتے ہو / سو جاؤ گے	هَا
تَمَّ (ایک مرد) ان سب (عورتوں) کو سوتے ہو / سو جاؤ گے	هِنَّ	تَمَّ (ایک مرد) ان سب (عورتوں) کو سوتے ہو / سو جاؤ گے	هِنَّ

تَمَّ (ایک عورت)	أَنْتِ	تَمَّ (سب مرد)	أَنْتُمْ
تَمَّ (ایک عورت) مجھے سوتی ہو / سو جاؤ گی	نِي	تَمَّ (سب مرد) مجھے سوتے ہو / سو جاؤ گے	نِي
تَمَّ (ایک عورت) ہمیں سوتی ہو / سو جاؤ گی	نَا	تَمَّ (سب مرد) ہمیں سوتے ہو / سو جاؤ گے	نَا
تَمَّ (ایک عورت) اسے (ایک مرد) سوتی ہو / سو جاؤ گی	هُ	تَمَّ (سب مرد) اسے (ایک مرد) سوتے ہو / سو جاؤ گے	هُ
تَمَّ (ایک عورت) ان دونوں کو سوتی ہو / سو جاؤ گی	هُمَا	تَمَّ (سب مرد) ان دونوں کو سوتے ہو / سو جاؤ گے	هُمَا
تَمَّ (ایک عورت) ان سب (مردوں) کو سوتی ہو / سو جاؤ گی	هُمْ	تَمَّ (سب مرد) ان سب (مردوں) کو سوتے ہو / سو جاؤ گے	هُمْ
تَمَّ (ایک عورت) اسے (ایک عورت) سوتی ہو / سو جاؤ گی	هَا	تَمَّ (سب مرد) اسے (ایک عورت) سوتے ہو / سو جاؤ گے	هَا
تَمَّ (ایک عورت) ان سب (عورتوں) کو سوتی ہو / سو جاؤ گی	هِنَّ	تَمَّ (سب مرد) ان سب (عورتوں) کو سوتے ہو / سو جاؤ گے	هِنَّ

انتن	تم سب (عورتیں)	اننا	میں
نِي	تم سب (عورتیں) مجھے سوتی ہو / سو جاؤ گی	كَ	میں تمہیں (ایک مرد) سوتا / سوتی ہوں / سو جاؤں گا / گی
نَا	تم سب (عورتیں) ہمیں سوتی ہو / سو جاؤ گی	كَا	میں تم دونوں کو سوتا / سوتی ہوں / سو جاؤں گا / گی
هُ	تم سب (عورتیں) اسے (ایک مرد) سوتی ہو / سو جاؤ گی	كُم	میں تم سب (مردوں) کو سوتا / سوتی ہوں / سو جاؤں گا / گی
هُمَا	تم سب (عورتیں) ان دونوں کو سوتی ہو / سو جاؤ گی	كِ	میں تمہیں (ایک عورت) سوتا / سوتی ہوں / سو جاؤں گا / گی
هُمْ	تم سب (عورتیں) ان سب (مردوں) کو سوتی ہو / سو جاؤ گی	كُنَّ	میں تم سب (عورتوں) کو سوتا / سوتی ہوں / سو جاؤں گا / گی
هَا	تم سب (عورتیں) اسے (ایک عورت) سوتی ہو / سو جاؤ گی	هُ	میں اسے (ایک مرد) سوتا / سوتی ہوں / سو جاؤں گا / گی
هِنَّ	تم سب (عورتیں) ان سب (عورتوں) کو سوتی ہو / سو جاؤ گی	هُمَا	میں ان دونوں کو سوتا / سوتی ہوں / سو جاؤں گا / گی
		هُم	میں ان سب (مردوں) کو سوتا / سوتی ہوں / سو جاؤں گا / گی
		هَا	میں اسے (ایک عورت) سوتا / سوتی ہوں / سو جاؤں گا / گی
		هِنَّ	میں ان سب (عورتوں) کو سوتا / سوتی ہوں / سو جاؤں گا / گی

نَحْنُ	ہم
كَ	ہم تمہیں (ایک مرد) سوتے ہیں / سو جائیں گے نَنَامُكَ
كَا	ہم تم دونوں کو سوتے ہیں / سو جائیں گے نَنَامُكُمَا
كُمُ	ہم تم سب (مردوں) کو سوتے ہیں / سو جائیں گے نَنَامُكُمْ
كِ	ہم تمہیں (ایک عورت) سوتے ہیں / سو جائیں گے نَنَامُكِ
كُنَّ	ہم تم سب (عورتوں) کو سوتے ہیں / سو جائیں گے نَنَامُكُنَّ
هُ	ہم اسے (ایک مرد) سوتے ہیں / سو جائیں گے نَنَامُهُ
هُمَا	ہم ان دونوں کو سوتے ہیں / سو جائیں گے نَنَامُهُمَا
هُمْ	ہم ان سب (مردوں) کو سوتے ہیں / سو جائیں گے نَنَامُهُمْ
هَا	ہم اسے (ایک عورت) سوتے ہیں / سو جائیں گے نَنَامُهَا
هِنَّ	ہم ان سب (عورتوں) کو سوتے ہیں / سو جائیں گے نَنَامُهُنَّ

USAGE EXAMPLES — PAST

مثالیں — ماضی

I
 أَنَا نِمْتُ عَلَى طَهَارَةٍ وَقَرَأْتُ أَذْكَارَ النَّوْمِ كَمَا عَلَّمَنَا النَّبِيُّ ﷺ.
 میں نے طہارت کے ساتھ سویا اور سونے کے اذکار پڑھے جیسے نبی ﷺ نے ہمیں سکھایا۔

I slept in a state of purity and recited the sleeping adhkar as the Prophet ﷺ taught us.

We
 نَحْنُ نَمْنَا مُبَكِّرِينَ كَيْ نَقُومَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فِي وَقْتِهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ.
 ہم جلدی سو گئے تاکہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ اس کے وقت پر ادا کریں۔

We slept early so as to rise for Fajr prayer on time with the congregation.

You (m)
 أَنْتَ نِمْتَ عَلَى جَنْبِكَ الْأَيْمَنِ كَمَا أَوْصَى النَّبِيُّ ﷺ وَقَرَأْتَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ.

تم نبی ﷺ کی ہدایت کے مطابق دائیں کروٹ لیٹ کر سونے اور آیت الکرسی پڑھی۔

You slept on your right side as the Prophet ﷺ advised and recited Ayat al-Kursi.

You (f)
 أَنْتِ نِمْتِ وَأَنْتِ رَاضِيَةٌ عَنْ رَبِّكَ شَاكِرَةٌ لَهُ عَلَى نِعْمِهِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ.

تم اپنے رب سے راضی اور اس کی ظاہری و باطنی نعمتوں پر شاکر ہو کر سوتیں۔

You slept while pleased with your Lord and grateful to Him for His apparent and hidden blessings.

He

هُوَ نَامَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَقَامَ لِلتَّجِدِّ فِي الثُّلُثِ الْآخِرِ مِنَ اللَّيْلِ.

وہ عشاء کے بعد سو گیا اور رات کے آخری تہائی حصے میں تہجد کے لیے اٹھا۔

He slept after Isha prayer and rose for Tahajjud in the last third of the night.

She

هِيَ نَامَتْ فَتَوَفَّاهَا اللَّهُ تَوَفِيًّا نَوْمًا وَرَدَّ رُوحَهَا حِينَ اسْتَيْقَظَتْ فَشَكَرَتْ اللَّهَ.

وہ سوئی تو اللہ نے اسے نیند والی وفات دی اور جب وہ جاگی تو اس کی روح لوٹادی تو اس نے اللہ کا شکر کیا۔

She slept and Allah took her soul in the sleep of death, then returned it when she awoke and she thanked Allah.

They two

هُمَا نَامَا بَعْدَ ذِكْرِ اللَّهِ وَقِرَاءَةِ الْأَذْكَارِ الْمَأْثُورَةِ فِي النَّوْمِ.

وہ دونوں اللہ کے ذکر اور سونے کے مسنون اذکار پڑھ کر سو گئے۔

They two slept after the remembrance of Allah and reciting the prescribed adhkar for sleeping.

They (m)

هُمْ نَامُوا بَعْدَ إِطْفَاءِ النَّارِ وَأَغْلَاقِ الْأَبْوَابِ كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ.

وہ نبی ﷺ کے حکم کے مطابق آگ بجھا کر اور دروازے بند کر کے سو گئے۔

They slept after extinguishing the fire and closing the doors, as the Prophet ﷺ commanded.

You all (m)

أَنْتُمْ نَمْتُمْ وَقَدْ اغْتَسَلْتُمْ أَوْ تَوَضَّأْتُمْ وَأَنْتُمْ عَلَى طَهَارَةٍ تَامَةٍ.

تم سب غسل یا وضو کر کے مکمل طہارت کی حالت میں سو گئے۔

You all slept having bathed or made wudu, in a state of complete purity.

They (f)

هُنَّ ثَلَاثٌ بَعْدَ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ وَالْمَعْوِذَتَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

انہوں نے سورۃ الاخلاص اور معوذتین تین تین بار پڑھ کر نیند کی۔

They slept after reciting Surah Al-Ikhlās and the two Mu'awwidhatain three times each.

USAGE EXAMPLES — PRESENT

مثالیں — مضارع

I

أَنَا أَنَامُ مُبَكِّرًا لِأَدْرِكَ صَلَاةَ الْفَجْرِ وَنِعْمَةَ الْيَقَظَةِ فِي وَقْتِ السَّحْرِ.

میں جلدی سوتا ہوں تاکہ فجر کی نماز اور سحر کے وقت بیداری کی نعمت پاؤں۔

I sleep early to catch the Fajr prayer and the blessing of being awake at the pre-dawn hour.

We

نَحْنُ نَنَامُ وَنَتَّقِي بِأَنَّ اللَّهَ يَحْفَظُنَا وَيُرُدُّ أَرْوَاحَنَا إِلَيْنَا بِرَحْمَتِهِ.

ہم سوتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری حفاظت کرتا ہے اور اپنی رحمت سے ہماری روحوں کو لوٹاتا ہے۔

We sleep trusting that Allah guards us and returns our souls to us by His mercy.

You (m)

أَنْتَ تَنَامُ عَلَى طَهَارَةٍ وَتَقْرَأُ الْأَذْكَارَ النَّوْمِ فَيَحْفَظُ اللَّهُ لَكَ لَيْلَكَ.

تم طہارت کے ساتھ سوتے ہو اور سونے کے اذکار پڑھتے ہو تو اللہ تمہاری رات کی حفاظت فرماتا ہے۔

You sleep in purity and recite the sleeping adhkar, so Allah guards your night for you.

You (f)

أَنْتِ تَنَامِينَ وَأَنْتِ مُتَوَكِّلَةٌ عَلَى اللَّهِ مُؤْمِنَةٌ بِأَنَّ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

تم اللہ پر توکل کرتے ہوئے سوتی ہو اور یقین رکھتی ہو کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

You sleep while relying on Allah, believing that there is no power or strength except with Allah.

He

هُوَ يَنَامُ نَوْمًا قَلِيلًا وَيَقُومُ لِلتَّجَدُّدِ طَلْبًا لِمَرْضَاةِ اللَّهِ وَخَشْيَةً مِنْ عَذَابِهِ.

وہ تھوڑا سوتا ہے اور تہجد کے لیے اٹھتا ہے اللہ کی رضا طلب کرنے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔

He sleeps a little and rises for Tahajjud seeking the pleasure of Allah and fearing His punishment.

She

هِيَ تَنَامُ بَعْدَ مَرَاجَعَةِ نَفْسِهَا وَمَحَاسِبَتِهَا عَلَى أَعْمَالِ يَوْمِهَا.

وہ اپنے دن کے اعمال کا جائزہ اور محاسبہ کرنے کے بعد سوتی ہے۔

She sleeps after reviewing and holding herself accountable for the deeds of her day.

They two

هُمَا يَنَامَانِ بَعْدَ آدَاءِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَذِكْرِ اللَّهِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّحْمِيدِ.

وہ دونوں عشاء کی نماز ادا کرنے اور اللہ کے ذکر، تسبیح اور تحمید کے بعد سوتے ہیں۔

They two sleep after performing the Isha prayer and the remembrance, tasbih, and tahmid of Allah.

They (m)

هُم يَنَامُونَ وَقُلُوبُهُمْ مُتَعَلِّقَةٌ بِاللَّهِ وَالسُّنَّةِ رَطْبَةٌ بِذِكْرِهِ.

وہ اس حال میں سوتے ہیں کہ ان کے دل اللہ سے لگے ہوتے ہیں اور زبانیں اس کے ذکر سے تر ہوتی ہیں۔

They sleep with their hearts attached to Allah and their tongues moist with His remembrance.

You all (m)

أَنْتُمْ تَنَامُونَ بَعْدَ آدَاءِ حُقُوقِ عِيَالِكُمْ وَتَسْتَيْقِظُونَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ جَمَاعَةً.

تم سب اپنے اہل خانہ کے حقوق ادا کرنے کے بعد سوتے ہو اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنے کے لیے اٹھتے ہو۔

You all sleep after fulfilling the rights of your family and rise for Fajr prayer in congregation.

They (f)

هِنَّ يَنَامْنَ عَلَى الشَّقِّ الْأَيْمَنِ اتِّبَاعًا لِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ وَيَقْرَأْنَ الْأَذْكَارَ الْمَأْثُورَةَ.

وہ نبی ﷺ کی سنت کی پیروی میں دائیں کروٹ پر سوتی ہیں اور مسنونہ اذکار پڑھتی ہیں۔

They sleep on the right side following the Sunnah of the Prophet ﷺ and recite the prescribed adhkar.

VOCABULARY

المفردات

النَّوْمُ

نیند

sleep

الْمَنَامُ

خواب / سونے کی جگہ

dream / place of sleep

الرُّؤْيَا

خواب (سچا)

vision / dream (in sleep)

الِاسْتَيْقَاطُ

بیدار ہونا / جاگنا

waking up

الطَّهَارَةُ

طہارت / پاکیزگی

purity / ritual cleanliness

الْأَذْكَارُ

اذکار / دعائیں

adhkar / remembrance supplications

التَّجَدُّدُ

تہجد

voluntary night prayer

الثُّلُثُ الْأَخِيرُ

رات کا آخری تہائی

last third of the night

الْفَجْرُ

فجر / صبح کی نماز

Fajr / dawn prayer

الرُّوحُ

روح

soul / spirit

التَّوْفِيُّ

وفات / روح قبض کرنا

taking of the soul at death or sleep

الْحِفْظُ

حفاظت

protection / guarding

الْأَيْمَنُ

دايماں / دایئیں طرف

right side

السُّنَّةُ

سنت

the Prophetic way / Sunnah

الدُّعَاءُ

دعا

supplication / prayer